

English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: **faiza saleem**

Batch: **OB 39**

Campus: **Rwl online**

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)**

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

Mashay

If the world ^{is} not ^{lure} attracting you towards its charm, ^{if} your eyes ^{tear up} ~~filled~~ with the fear of Allah, ^{idea} the imagination of hell ^{is} ~~producing~~ ^{instills} the fear of Allah ^{in you}, ^{if} you ~~are~~ ^{are} praying ~~is~~ a way that ~~to be done~~, ^{if} good deed ~~is~~ ^{is} attracting you ^{towards} ~~and~~ your feet ~~slopes~~ ^{Refrain from treading the wrong path} on the way to bad doings, then you are ~~poor~~ ^{fortunate thing} pious. To be pious is a good luck. Some are pious, and some become pious. ^{to} ~~becoming~~ ^{becoming} pious is a continuous process of struggle and purification.

And also requires bearing hardships.